



سوال

(103) دوران نمازیند کا آنا

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ضلع قصور سے حافظ زکریا دریافت کرتے ہیں کہ دوران نماز سوتے ہوئے آدمی کو دوسرا نمازی بیدار کر سکتا ہے یا نہیں؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

دوران نماز سو جانا نماز کی صحت کے منافی ہے، اس کی اصلاح کے لئے اگر کوئی دوسرا نمازی اسے بیدار کرتا ہے تو شرعاً اس کی گنجائش ہے۔ اصلاح نماز کے لئے ایسا کرنے سے نماز میں کوئی خرابی نہیں آتی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھ رہے تھے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ آپ کے بائیں جانب کھڑے ہو گئے تو آپ نے اسے پکڑ کر اپنے پیچھے سے اپنی دائیں جانب کھڑا کر دیا۔ (صحیح بخاری: کتاب الاذان)

لہذا اصلاح نماز کے لئے دوران نماز ایسا کیا جاسکتا ہے۔

هذا ما عندي والله أعلم بالصواب

فتاویٰ اصحاب الحدیث

جلد: 1 صفحہ: 135